



نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کا اسلامی بینکاری ڈویژن مستند اور جید مفتیانِ کرام کی زیر نگرانی زرعی شعبہ میں سرمایہ کاری اور تمویلی خدمات فراہم کرتا ہے، جس کے لئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شعبہ اسلامی بینکاری نے اس کو باقاعدہ لائسنس بھی جاری کیا ہے۔

زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کا اسلامی بینکاری ڈویژن کرنٹ اکاؤنٹ (جاری کھاتہ) کی بنیاد پر لوگوں سے جو رقم وصول کرتا ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے، جس کے اوپر ڈیپازٹرز (کھاتہ داران) کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دیا جاتا، جبکہ سیونگ اکاؤنٹ (بچت کھاتہ) اور ٹرم ڈیپازٹ (میعادی کھاتہ) کی بنیاد پر بینک ڈیپازٹرز (کھاتہ داران) سے جو رقم لیتا ہے، اس کی حیثیت مضاربت کی ہے، جو کہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔

زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کا اسلامی بینکاری ڈویژن قرض اور مضاربت کی بنیاد پر لوگوں سے جو رقم وصول کرتا ہے، وہ اس کو مختلف طرق ہائے تمویل مثلاً مضاربہ، اجارہ اور صلک وغیرہ میں شریعہ بورڈ کے زیر نگرانی اس کی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ جس میں تمام شرعی تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نیز شریعہ بورڈ نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے اسلامی بینکاری ڈویژن کے تمام کاغذات بشمول پروڈکٹ مینولز اور پالیسیز وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کی منظوری دی ہے۔

لہذا اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے، کہ موجودہ صورتحال میں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے اسلامی بینکاری ڈویژن میں کوئی اکاؤنٹ کھلوانا، اس پر نفع حاصل کرنا یا اس کے ذریعے کسی بھی قسم کی تمویلی سہولت حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مفتی محمد وصی فصیح بٹ

چیرمین شریعہ بورڈ

مفتی عزیز اشرف عثمانی

ممبر شریعہ بورڈ

مفتی فواد علی

ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر